

91899-دوسری شادی کرنے کے لیے غیر کنوارے کا جعلی سرٹفکیٹ تیار کرنا

سوال

میری ایک قریبی رشتہ دار لڑکی نے ایک شادی شدہ شخص سے شادی کی ہے، لیکن مرد کے گھر والوں نے اس شادی کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ اس آدمی نے پہلی شادی اپنے والد کی رغبت سے کی تھی، اس شخص نے میری رشتہ دار لڑکی سے شرعی طریقہ کے مطابق شادی کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کنوارہ ہونے کا سرٹفکیٹ جعلی تیار کرایا ہے اس لیے کہ:

1- ہمارے ملک میں نئے قانون کے مطابق دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے۔

2- وہ اپنی پہلی بیوی فی الحال طلاق نہیں دینا چاہتا، اور اس کے پاس طلاق کے اخراجات بھی نہیں ہیں۔

یہ علم میں رہے کہ پہلی بیوی سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اب وہ اپنی آمدنی بہتر بنانے کے لیے غیر ملک چلا گیا ہے، تاکہ اس کی مشکلات کا کوئی حل نکل سکے اس کے کہنے مطابق کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور اگر اس کی بیوی بغیر طلاق کے ہی اپنے سسرال میں رہنا چاہتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس کے خاندان کے حالات ہی ایسے ہیں، لیکن وہ اس سے معاشرت نہیں کریگا، اس کا کہنا ہے وہ خود اسے اختیار کرے کیونکہ وہ اسے نکالنا نہیں چاہتا۔

یہ یاد رہے کہ مرد کے گھر والوں کو دوسری شادی کا علم نہیں، تاکہ مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ:

کیا کنوارہ ہونے کی جعلی سرٹفکیٹ پیش کر کے دوسری شادی کرنا صحیح ہے؟

کیا ہم لڑکی والے اسے اس جعلی سرٹفکیٹ دوسری شادی کرنے پر تیار اور ابھارنے کی بنا پر گنہگار ہیں؟

یہ بھی علم میں رکھیں کہ ہماری لڑکی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلی شادی سے قبل اس آدمی کے ساتھ غیر شرعی تعلقات قائم تھے، تو ہم نے اس حرام تعلقات کے خوف سے اسے شادی کرنے کا کہا ہے وہ اس طریقہ سے شادی کر لے؟

پسندیدہ جواب

اول:

ہمیں ان ملکوں پر بہت افسوس ہوتا جو

اسلام کے خلاف جنگ کرتی اور مسلمانوں پر ان کے دینی شعرا اور اللہ عزوجل کی اطاعت و

فرمانبرداری کرنے میں تنگی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جب اپنے دروازے فتنہ

فساد اور اخلاق فاضلہ کو ختم کرنے کے اسباب کے لیے کھولتے ہیں تو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مباح کردہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی رغبت رکھنے والے شخص پر ٹنگی کرتے ہیں۔

بلکہ ان ممالک میں سے بعض تو ایک سے زائد شادی کرنے کو بالکل منع کرتے ہیں، اور بعض ممالک نے پہلی بیوی کی رضامندی کی شرط لگا رکھی ہے! یہ بتائیں کہ وہ کونسی بیوی ہے جس کے سامنے دوسری شادی کرنا پیش کیا جائے تو وہ قبول کریگی؟!

اور بعض ممالک نے معین آمدنی کی شرط لگا رکھی ہے جس سے بہت سارے لوگ عاجز ہیں، لیکن وہ دوسری شادی کرنے پر قادر ہیں۔

ان ممالک کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی شریعت کی مخالفت سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کسی بھی عالم دین اور جج اور قاضی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس طرح کے قوانین قبول کرنا جائز نہیں۔

اور ایک سے زائد شادی کرنے والوں میں جو ظلم و ستم پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اگر یہی معیار ہے تو پھر یہ چیز تو ایک بیوی رکھنے والوں میں اس سے بھی زیادہ موجود ہے، تو کیا یہ چیز پہلی شادی کرنے کو بھی ختم کرنے کا باعث بن جائیگا؟!

یہ بات عجیب بات ہے کہ یہ قوانین حرام کو مباح اور جائز قرار دیتے ہیں، اور اسے جرم اور برائی شمار نہیں کرتے لیکن حلال کو حرام کر کے اسے جرم اور برائی قرار دیتے ہیں۔

جس شخص کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے کہ شادی سے قبل اس عورت سے غیر شرعی تعلقات تھے، عرض یہ ہے کہ اگر یہ تعلقات ان قوانین تک پہنچ جائیں تو وہ اسے مباح قرار دیگا کہ ان دونوں کی رضامندی سے یہ تعلقات قائم تھے اور وہ عورت بالغ اور پھوڑ تھی!!

لیکن اس کے برعکس اگر وہ غیر شرعی تعلقات کی بجائے اسے اپنی بیوی بناتا ہے تو یہی قانون اسے حرام اور برائی گردانتا

ہے، اور وہ کہتے ہیں: آپ اپنی معشوق تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اسے بیوی نہیں بنا سکتے!
کتنی ہی براقانون ہے جو انہوں نے بنا رکھا ہے!

چنانچہ اس طرح کے قوانین جو اللہ کی شریعت کے مخالف اور باطل ہوں مسلمان شخص کے لیے اس سے بھاگنا اور اس کے متعلق جیلہ سازی کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے جو کوئی بھی ایک سے زائد شادی کرنا چاہتا ہو اور وہ کوارہ پن کا جعلی سرٹیفکیٹ بنوالے تاکہ عقد نکاح مکمل ہو سکے تو اس پر کوئی حرج اور گناہ نہیں؛ کیونکہ وہ قانون جس نے اسے ایک سے زائد شادی کرنے سے منع کیا ہے وہ قانون باطل اور ناجائز ہے، مسلمان شخص کے لیے اس قانون کو ماننا اور اس کے تابع ہونا جائز نہیں۔

لیکن خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات پر غور کر لے، کیونکہ ہوسکتا ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں اور ضرر پیدا ہوں۔

اور دوسری بیوی کے خاندان والوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ انہوں نے اس سرٹیفکیٹ کے جعلی ہونے کا علم ہونے کے باوجود اس کو اپنی بیٹی دے دی، بلاشک و شبہ یہ ان کے لیے بھی اور ان کی بیٹی کے لیے بھی غیر شرعی تعلقات قائم کرنے سے بہتر اور اچھا ہے۔

دوم:

والد کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی ایسی لڑکی سے شادی پر مجبور کرے جسے وہ چاہتا ہی نہیں، اور اس حال میں بیٹے کو بھی اپنے والد کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طریقہ سے شادی میں نہ تو محبت و الفت پائی جائیگی اور نہ ہی خاوند اور بیوی کے درمیان رحمہلی و سکون پیدا ہوگا۔

بلکہ ہوسکتا ہے خاوند اپنی بیوی کو ناپسند کرنے کی وجہ سے بیوی پر ظلم و ستم کرنے لگے، اور اس طرح کی شادیاں بہت کم کامیاب ہوتی ہیں، بلکہ اکثر ناکام ہو جاتی ہیں، اور خاوند و بیوی کو اس کے پیچھے مشکلات و ناکامی اور اولاد میں بگاڑ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عورت کا اس میں کوئی قصور اور گناہ نہیں کہ اس کی سزا میں اس سے برا سلوک کیا جائے کہ یہ شادی اس کی پسند کی نہ تھی۔

اور اگر وہ اپنے والد کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے حقوق ادا کرے، اور اسے راضی و خوشی اپنی بیوی بنائے اور اس کے مکمل حقوق ادا کرتے ہوئے اس سے حسن معاشرت کرے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ اسے اچھے طریقے سے نہیں رکھ سکتا تو اسے اچھے اور بہتر طریقے سے طلاق دے کر اور بغیر کسی کمی کے اس کا حق ادا کر کے اسے چھوڑ دے۔

اور اگر عورت اس کے ذمہ میں ہی رہنا چاہتی ہو اور بغیر معاشرے کے ہی اس کے بچے کو پالے اور پرورش کرے تو اس کے لیے اسے قبول کرنا جائز ہے، اور اسی طرح اگر یہ چیز اس عورت کے سامنے رکھی جائے اور وہ اس کی موافقت کر لے تو بھی جائز ہے۔

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا درج ذیل فرمان باری تعالیٰ کے متعلق فرماتی ہیں:

﴿اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں﴾۔ النساء (128)۔

یہ اس عورت کے متعلق نازل ہوئی جو مرد کی صحبت میں ہو اور لمبی مدت ہو جائے اور وہ مرد سے طلاق دینا چاہے تو وہ عورت اپنے خاوند کو کہتی ہے:

مجھے طلاق مت دو بلکہ اپنے ہی ذمہ میں رکھو اور تم مجھ سے حلال ہو (یعنی اپنی باری کو ختم کر دے) تو یہ آیت نازل ہوئی

صحیح بخاری حدیث نمبر (2318) صحیح مسلم حدیث نمبر (3020)۔

اور بخاری کی روایت میں ہے :

”عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے

ہیں :

وہ شخص جو اپنی بیوی سے ایسا کچھ

دیکھے جو اسے بڑھا پے وغیرہ کی بنا پر اچھا نہ لگے اور وہ اسے اپنے سے جدا کرنا چاہے

تو وہ خاوند کو لکے تم مجھے اپنے پاس ہی رکھو، اور میرے لیے جو چاہو تقسیم کرو،

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج

نہیں ”

صحیح بخاری حدیث نمبر (2584).

ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں :

”جب مرد اپنی بیوی سے حاجت پوری کر

لے اور اس کا نفس اسے ناپسند کرنے لگے یا پھر اس کی حقوق کی ادائیگی سے عاجز ہو

جائے تو اسے طلاق دینے کا حق ہے اور اسے اختیار دینے کا بھی حق ہے، اگر چاہے تو وہ

عورت اس کے پاس رہے اور تقسیم اور ہم بستری اور نفقہ میں اسے کوئی حق حاصل نہ ہو،

یا اس میں سے کچھ کا یعنی جس پر وہ دونوں رضامند ہو جائیں، اگر وہ اس پر راضی ہو

جائے تو لازم ہوگا، اور رضامندی کے بعد اسے مطالبہ کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، سنت

نبویہ کا موجب اور تقاضا یہی ہے، اور یہی صحیح ہے اس کے علاوہ کچھ اور جائز نہیں.

اور جو یہ کہتا ہے :

اس کے حقوق کی تجدید ہو سکتی ہے، اور

جب چاہے بیوی اس سے رجوع کر سکتی ہے، یہ قول فاسد ہے صحیح نہیں؛ کیونکہ یہ معاوضہ

کی جگہ ہے، اور اللہ عزوجل نے اسے صلح کا نام دیا ہے، تو یہ اسی طرح لازم ہے جس طرح

وہ حقوق اور اموال لازم ہوتے ہیں جن پر صلح کی جائے.

اور اگر وہ اس کے بعد وہ اپنے حقوق

کے مطالبہ کر سکتی ہو تو پھر اس میں تاخیر ضرر لازم آتا ہے جو دونوں حالتوں میں

زیادہ کامل ہو، نہ کہ یہ صلح ہوگی، بلکہ یہ تو دشمنی کے قریبی اسباب میں سے ہوگا،

اور شریعت اسلامیہ اس سے بری ہے.

اور پھر منافق کی علامت میں یہ شامل ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی اور جب معاہدہ کرتا ہے تو اسے توڑتا دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اسے رد کرتا ہے ”

دیکھیں: زاد المعاد (5/152-153)

.)

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی اس مسئلہ میں اسی طرح کی کلام موجود ہے۔

دیکھیں: مجموع فتاویٰ (270/32).

سوم:

آپ نے اپنے سوال میں یہ بیان کیا ہے کہ اس لڑکی کے شادی سے قبل اس شخص کے ساتھ غیر شرعی تعلقات تھے اگر تو اس کا معنی زنا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک زنا کرنے والے دونوں توبہ نہیں کرتے ان کی آپس میں شادی کرنا جائز نہیں۔

اس کا تفصیلی بیان سوال نمبر)

(11195) اور)

(14381) کے جواب میں ہو چکا ہے آپ اس کا

مطالعہ کریں۔

واللہ اعلم۔